



نیک سب کا نسخہ

اسلام آباد کے لیے

پندرہویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت
شیخ طریقت، امیر اہل سنت، ہانی دولت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد جمال
محمد الیاس عطار قادری رضوی

نے اس بے فتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر
مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ

72 نیک اعمال

بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں۔ ان کے مطابق عمل کرنے کا
طریقہ کار آخر میں دیا گیا ہے۔

پیش کش: مرکزی مجلس شوریہ (عوامی سوسائٹی)

یومیہ 56 نیک اعمال

پہلا درجہ 19 نیک اعمال

(1) کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے کم از کم ایک ایک اچھی نیت کی؟ (کاش! کسی ایک کو ترغیب بھی، تین کاموں میں اچھی نیت کرنے سے ”نیک عمل“ پر عمل مان لیا جائے گا۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(2) کیا آج آپ نے پانچوں نمازیں جماعت سے ادا کیں؟ (کاش! پہلی صف مع تکبیر اولیٰ کبھی نہ چھوٹے۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(3) کیا آج آپ نے گھر، بازار، مارکیٹ وغیرہ جہاں بھی تھے وہاں نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھنے سے قبل نماز کی دعوت دی؟ (کاش! پانچوں نمازوں میں کسی ایک کو اپنے ساتھ مسجد لیتے جائیں۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(4) کیا آج آپ نے رات میں سُورَةُ الْمُنْكَثِ پڑھ یا سُن لی؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(5) کیا آج آپ نے پانچوں نمازوں کے بعد کم از کم ایک ایک بار آیَةُ الْكُرْسِيِّ، سُورَةُ الْاِخْلَاصِ اور تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا پڑھی؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(6) کیا آج آپ نے کنزُ الْاِيْمَانِ مع خزانِ الْعِرْفَانِ یا نُورِ الْعِرْفَانِ سے کم از کم تین آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں یا سُنیں؟ یا صِرَاطُ الْجَنَانِ سے کم و بیش دو صفحات پڑھ یا سُن لیں؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(7) کیا آج آپ نے شجرے کے کچھ نہ کچھ اور اد پڑھے؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(8) کیا آج آپ نے کم از کم 313 بار دُرُودِ شَرِيفِ پڑھا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(9) کیا آج آپ نے **آنکھوں کو گناہوں** (یعنی بد نگاہی، فلمیں ڈرامے، موبائل پر گندی تصاویر اور ویڈیوز، نامحرم عورتوں اور کزنز وغیرہ کو دیکھنے) سے بچایا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(10) کیا آج آپ نے **کانوں کو گناہوں** یعنی غیبت، گانے باجوں، بُری اور گندی باتوں، موبائل کی میوزیکل ٹیون، کالر ٹیون وغیرہ وغیرہ سُننے سے بچایا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(11) راستے میں چلتے ہوئے یا کار یا بس وغیرہ میں سَفَر کے دوران خود کو فضول نگاہی سے بچاتے ہوئے کیا آج آپ نے **نگاہیں نیچی رکھیں؟** اور بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے اپنے آپ کو بچایا؟ (زہے نصیب! کسی سے بات کرتے وقت سامنے والے کے چہرے پر بلا ضرورت مسلسل نظر جمی رہنے کے بجائے نیچی رہا کرے۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(12) کیا آج آپ نے اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ یا مکتبۃ المدینہ کی کسی **کتاب** یا **رسالے** یا ”ماہنامہ فیضانِ مدینہ“ کو کم از کم 12 منٹ پڑھایا سنا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(13) کیا آج آپ نے بات چیت، فون پر گفتگو اور کام کاج موقوف کر کے **آذان و اقامت کا جواب** دیا؟ (اگر پہلے سے کھاپی رہے ہوں اور آذان شروع ہو جائے تو کھانا پینا جاری رکھنے میں حرج نہیں، اسی طرح نماز کی تیاری کے سلسلے میں چلنے اور وضو کرنے وغیرہ میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(14) آج آپ نے (گھر میں یا باہر) کسی پر غصّہ آجانے کی صورت میں چُپ رہ کر غصّے کا علاج فرمایا یا بول پڑے؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(15) کیا آج آپ نے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے ”نیک اعمال“ کے رسالے کے خانے پُر کئے؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(16) کیا آج آپ نے ”مرکزی مجلسِ شوریٰ“ کے اصولوں کے مطابق اپنے نگران کی اطاعت کی؟ (شریعت کی اجازت ہونے کی صورت میں شوریٰ)

کی اطاعت میری اطاعت، شوریٰ کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ سب مدینہ عقیٰ عنہ)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(17) کیا آج آپ نے گھر اور باہر ہر چھوٹے بڑے سے اچھے انداز سے یعنی آپ جناب اور جی جی کہہ کر گفتگو کی؟ (حسب موقع چہرے پر مسکراہٹ رکھے۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(18) کیا آج آپ نے مَدْرَسَةُ الْمَدِينَةِ (بالغان) میں قرآن کریم پڑھا، یا پڑھایا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(19) کیا آج آپ نے عِشَاقِی جَمَاعَت سے دو گھنٹے کے اندر اندر سونے کی کوشش کی؟ (TV پر براہ راست مدنی مذاکرے اور دعوتِ اسلامی کے خصوصی اجتماعات وغیرہ میں شرکت یا وقت کے اندر گھر پہنچ کر عبادت و مطالعے کے سبب ہونے والی تاخیر میں کسی کی حق تلفی وغیرہ نہ ہوتی ہو تو ”نیک عمل“ دُرُست ہے۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

دوسرا درجہ 19 نیک اعمال

(20) کیا آج آپ نے دعوتِ اسلامی کے مدنی کاموں کو اپنے نگران کے دیئے ہوئے شیڈول کے مطابق کم از کم دو گھنٹے دیئے؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(21) کیا آج آپ نے صدائے مدینہ لگائی؟ (دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول میں نمازِ فجر کے لئے مسلمانوں کو جگانا "صدائے مدینہ لگانا" کہلاتا ہے۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(22) کیا آج آپ نے اپنے گھر کے جھروکوں (یعنی باہر دیکھنے کے لئے رکھی گئی کھڑکیوں) سے (بلا ضرورت) باہر نیز کسی اور کے دروازوں وغیرہ سے اُن کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(23) کیا آج آپ کے ہاں گھر درس ہوا؟ یا کسی عذر کی صورت میں آپ کی غیر موجودگی میں گھر درس کا سلسلہ ہوا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(24) کیا آج آپ نے کم از کم ایک مدنی درس (مسجد، دکان، بازار وغیرہ جہاں سہولت ہو) دیا، یا سنا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(25) کیا آج آپ نے سُنت کے مطابق لباس (جو لیڈیز کلر مثلاً شوخ یعنی تیز رنگ یا چمکیلا نہ ہو یا ایسے رنگ کا بھی نہ ہو جو شرعاً منع ہے وہ) پہنا؟⁽¹⁾ (لبا عری گرتا سُنتے سے اُوپر پہننے والے اسلامی بھائی کا ”نیک عمل“ دُرست مان لیا جائے گا۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

_____ مَدینہ

1 سُنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک اور چوڑائی ایک بالشت ہو۔ (ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحۃ، فصل فی اللبس، 579/9) سفید لباس ہر لباس سے بہتر ہے اور سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا سمرہ رَضِيَ اللہُ عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضورِ پاک صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا: سفید لباس پہنو! کیونکہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے اور اپنے مُردوں کو بھی اسی میں کفناؤ۔

(ترمذی، کتاب الادب، باب ماجاء فی لبس البیاض، 370/4، حدیث: 2819)

(26) کیا آپ کا زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(27) ایک مُشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ آج آپ نے خُدا ناخواستہ داڑھی مُنڈانے یا ایک مُشت سے گھٹانے کا گناہ تو نہیں کیا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(28) کیا آج آپ نے مَعَاذَ اللہ گناہ ہو جانے کی صورت میں فوراً توبہ کی؟ (کاش! روزانہ کم از کم 70 بار استغفار مثلاً 70 بار اَسْتَغْفِرُ اللہ پڑھنا نصیب ہو جائے۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(29) کیا آج آپ نے سنت کے مطابق کھانا کھایا اور کھانے سے پہلے اور بعد کی دُعائیں پڑھیں؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(30) کیا آج آپ نے گھر، دفتر، بس، ٹرین وغیرہ میں آتے جاتے اور گلیوں سے گزرتے ہوئے راہ میں کھڑے یا بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو سلام کیا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(31) کیا آج آپ نے ان سنتوں پر کچھ نہ کچھ عمل کیا؟ (مسواک، گھر میں آنا جانا، سونا جاگنا، قبلہ رخ بیٹھنا وغیرہ)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(32) کیا آج آپ نے ظہر کی چار سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کیں؟ (خیال رہے کہ ظہر کی چار سنت قبلیہ سنت مؤکدہ ہیں اور ان کا چار رکعت فرض سے پہلے پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(33) کیا آج آپ نے تہجد کی نماز پڑھی؟ یا رات نہ سونے کی صورت میں صلوٰۃ اللیل ادا کی؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(34) کیا آج آپ نے اذان یا اشراق و چاشت کے نوافل پڑھے؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(35) کیا آج آپ نے **عصرِ عشا کی سنّتِ قبلیہ** پڑھیں؟ (زہے نصیب! عصر اور عشا دونوں کی سنّتِ قبلیہ اور ظہر و مغرب و عشا کے نوافل بھی ادا کئے جائیں۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(36) کیا آج آپ نے **انفرادی کوشش کے ذریعے دعوتِ اسلامی کے 12 مدنی کام میں سے کم از کم ایک مدنی کام کی ترغیب** دلائی؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(37) آج آپ نے **دوسروں سے مانگ کر کوئی چیز (مثلاً چٹیل، چادر، موبائل فون، چارجر، گاڑی وغیرہ وغیرہ) استعمال تو نہیں کی؟** (دوسروں سے سوال کی عادت ہو تو نکال دیجئے، ضرورت کی چیز نشانی لگا کر اپنے پاس بحفاظت رکھئے۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(38) کیا آج آپ جھوٹ بولنے، غیبت و چغلی کرنے / سُننے سے بچے؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

تیسرا درجہ 18 نیک اعمال

(39) کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ وقت کے لئے ”مَدَنی چینل“ دیکھا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(40) کیا آپ کی کسی ایک یا چند سے دُنویٰ طور پر ذاتی دوستی تو نہیں ہے؟ (ذاتی دوستیاں اور گروپ، تنظیمی کاموں کی ترقی میں عام طور پر رُکاوٹ بنتے ہیں۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(41) آج آپ نے قرض ہونے کی صورت میں (ادائیگی کی طاقت کے باوجود) قرض خواہ کی اجازت کے بغیر قرض ادا کرنے میں تاخیر تو نہیں کی؟ نیز کسی سے عاریتاً (یعنی Temporary) لی ہوئی چیز ضرورت پوری ہونے پر طے کئے ہوئے وقت کے اندر واپس کر دی؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(42) آج آپ نے **عاجزی** کے ایسے الفاظ جن کی تائید دل نہ کرے بول کر نفاق و ریاکاری کا جرم تو نہیں کیا؟ مثلاً لوگوں کے دل میں اپنی عزت بنانے کے لئے اس طرح کہنا: ”میں حقیر ہوں، کمینہ ہوں“ جبکہ دل میں ایسا نہ سمجھتا ہو۔

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(43) کیا آپ **صفائی ستھرائی** کے عادی اور سلیقہ مند ہیں؟ (صفائی ستھرائی: یعنی بدن و لباس، گھر اور جہاں کام کرتے ہیں وہ جگہ اور وہاں کی اشیاء صاف رکھنا وغیرہ۔ سلیقہ: یعنی وقت کی پابندی، گھر اور اپنی یا کسی اور کی گاڑی میں بیٹھتے وقت بلا ضرورت زور سے دروازہ بند نہ کرنا، اپنے گھر، تعلیم گاہ، دفتر یا کسی کے ہاں کی جو چیز اجازت ہونے کی صورت میں اٹھائی پھر اسی جگہ رکھنا وغیرہ۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(44) آج آپ نے کسی مسلمان کا عیب ظاہر ہو جانے پر (بلا مصلحت شرعی)

اُسکا عیب کسی اور پر ظاہر تو نہیں کیا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(45) کیا آج آپ نے بعدِ فجر **مَدَنی حلقہ** لگایا، یا شرکت کی؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(46) کیا آج آپ نے ہر جائز و عزت والے کام سے پہلے **بِسْمِ اللّٰہِ** پڑھی؟ (کم از کم تین بار پڑھنے والے کا عمل مان لیا جائے گا۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(47) کیا آج آپ نے چوک درس دیا، یا سنا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(48) کیا آج آپ نے اپنے والدین اور پیر و مرشد کے لئے **دُعائے مغفرت** اور کچھ نہ کچھ **ایصالِ ثواب** کیا؟ (ایک بار دُرُودِ شریف پڑھ کر بھی ایصالِ ثواب کیا جاسکتا ہے۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(49) کیا آج آپ نے مسجد، گھر، آفس وغیرہ میں اسراف سے بچنے کی کوشش کی؟ (مثلاً لائٹ، پنکھا، بجلی وغیرہ کا بلا ضرورت استعمال کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی گرانا یا بہانا۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(50) کیا آج آپ نے ٹریفک قوانین کی پابندی کی؟ (جیسے موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلیمٹ، گاڑی چلانے کی صورت میں موبائل کا استعمال نہ کرنا، سیٹ بیلٹ باندھنا، سگنل کا لحاظ رکھنا، ون وے نہ توڑنا وغیرہ وغیرہ۔) گاڑی نہ چلانے والا اگلی سیٹ پر بیٹھنے کی صورت میں سیٹ بیلٹ باندھے۔

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(51) کسی اسلامی بھائی (خصوصاً ذمے دار) سے معاذ اللہ کوئی بُرائی صادر ہو جائے اور اصلاح کی ضرورت ہو تو تحریری طور پر، یا مل کر، براہ راست (زری سے)

سمجھانے کی کوشش فرمائی؟ یا مَعَاذَ اللہ بلا اجازتِ شرعی کسی اور پر اظہار کر کے غیبت کا گناہ کبیرہ کر بیٹھے؟ ہاں! ناکامی کی صورت میں جو اس کی اصلاح پر قادر ہو اسے بتانے میں حرج نہیں۔ نیز وہ بُرائی اگر دین و دعوتِ اسلامی کے لئے نقصان دہ ہو تو پھر تنظیمی ترکیب کے مطابق مسئلہ حل کرنے میں بھی مضائقہ نہیں۔

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(52) کیا آج آپ نے زبان کو گناہوں (یعنی الزام تراشی، دل آزاری، گالی گلوچ وغیرہ) سے بچایا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(53) کیا آج آپ نے زبان کو فضول استعمال (یعنی وہ گفتگو جس سے دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو) سے بچانے کی عادت بنانے کے لئے کچھ نہ کچھ اشارے سے گفتگو کی؟ (زہے نصیب! روزانہ کم از کم چار بار لکھ کر اور کم از کم تین بار اشارے سے گفتگو اور ہر ماہ کی پہلی پیر شریف یومِ فضلِ مدینہ منانے کی سعادت حاصل ہو۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(54) کیا آج آپ نے (گھر میں اور باہر) مذاق مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہہ لگانے (یعنی کھل کھلا کر ہنسنے) سے بچنے کی کوشش کی؟ (یاد رکھئے! کسی مسلمان کا (بلاوجہ شرعی) دل دکھانا کبیرہ گناہ ہے۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(55) کیا آج آپ نے عمامہ شریف باندھا؟ (کم از کم ایک گھنٹہ 12 منٹ باندھنے والے کا عمل مانا جائے گا۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(56) کیا آج ماں باپ کا ادب و احترام بجالائے؟ (ان کی کہی ہوئی بات شریعت کے مطابق ہو تو ماننا، اُن کا ہاتھ چومنا، اُن کی آواز سے اپنی آواز دھیمی رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ مزید تفصیلات کے لئے رسالہ ”سمندری گنبد“ کا مطالعہ فرمائیے۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

20

مہینا.....

قفل مدینہ کارکردگی

تاریخ	لکھ کر گفتگو	اشارے سے گفتگو	نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو
	کم از کم 12 مرتبہ	کم از کم 12 مرتبہ	کم از کم 12 مرتبہ
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

تاریخ	لکھ کر گفتگو	اشارے سے گفتگو	نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو
	کم از کم 12 مرتبہ	کم از کم 12 مرتبہ	کم از کم 12 مرتبہ
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

ہفتہ وار 10 نیک اعمال

(57) کیا آپ نے گھر سے اس ہفتے کسی نہ کسی اسلامی بہن (مثلاً بہن / بیٹی / والدہ بچوں کی والدہ وغیرہ) کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھیجا؟

(58) کیا ہفتہ وار مدنی مذاکرہ دیکھنے / سننے کی سعادت حاصل کی؟ (دورانیہ: سوال جواب شروع ہونے سے کم از کم ایک گھنٹہ 12 منٹ)

(59) کیا ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اول تا آخر (یعنی مغرب تا اشراق و چاشت) شرکت کی؟

(60) کیا آپ نے اس ہفتے یوم تعطیل اعیکاف کی سعادت پائی؟

(61) کیا اس ہفتے کم از کم کسی ایک مریض یا دکھیارے کے گھریا اسپتال جا کر سنت کے مطابق عیادت یا غمخواری یا عزیز کے انتقال پر تعزیت کی؟ (اورادِ عظامیہ کے استعمال کا مشورہ دے کر ثواب کمائیے۔)

(62) کیا اس ہفتے **پیر شریف** (یارہ جانے کی صورت میں کسی بھی دن) کا روزہ رکھا؟

(63) کیا اس بار کا ہفتہ **وارِ سالہ** پڑھ یا سُن لیا؟

(64) کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم **ایک بار عِلّاقائی دورہ** کیا؟

(65) کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک اسلامی بھائی کو (جو پہلے مدنی ماحول میں تھے، یا پہلے اجتماع میں آتے تھے مگر اب نہیں آتے) تلاش کر کے اُن کو مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کی؟

(66) کیا آپ نے ہفتہ وار **مدنی حلقے** میں شرکت کی؟

ماہانہ 3 نیک اعمال

(67) کیا پچھلے مہینے کا **”نیک اعمال“** کارِ سالہ فِل یعنی پُر کر کے اپنے نگران و ذمہ دار کو جمع کروادیا؟

(68) کیا اس ماہ آپ نے کم از کم تین دن کے مدنی قافلے میں سَفَر کیا؟

(69) کیا آپ نے اس ماہ کسی سُنی عالم (یا امام مسجد، مؤذن، خادم) کی کچھ نہ کچھ مالی خدمت کی؟

سالانہ 1 نیک عمل

(70) آپ نے اس سال ٹائم ٹیبل کے مطابق ایک مہینے کے قافلے میں سفر فرمایا؟

زندگی بھر کے 2 نیک اعمال

(71) کیا آپ نے زندگی بھر کے نصاب کا مطالعہ فرمایا؟ (منہاج العابدین، جاء الحق، بہار شریعت حصہ 9 سے مُرتد کا بیان، حصہ 16 سے خرید و فروخت کا بیان اور والدین کے حقوق کا بیان، (اگر شادی شدہ ہیں تو) حصہ 7 سے مُحَرَّمات کا بیان اور حقوق الزوجین، حصہ 8 سے بچوں کی پرورش کا بیان، طلاق کا بیان، ظہار کا بیان اور طلاق کناہیہ کا بیان۔ اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کی کُتُب ”تمہیدُ الایمان، حَسَامُ الْحَرَمِین“ نیز مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتابیں ”کفریہ

کلمات کے بارے میں سُوال جواب، چندے کے بارے میں سُوال جواب، بنیادی عقائد اور معمولاتِ اہلسنت، عقیدہٴ آخرت، دس عقیدے، اسلام کے بنیادی عقیدے، الْحَقُّ الْبُیِّن، اسلام کی بنیادی باتیں (تینوں حصے)، کتاب العقائد، گلدستہٴ عقائد و اعمال، گانوں کے ۳۵ کفریہ اشعار، ۲۸ کلماتِ کفر، اعلیٰ حضرت سے سُوال جواب، علمُ القرآن، نماز کے احکام اور فیضانِ سنت کے تمام ابواب پڑھ یا سُن لئے؟) (کاش! ہر سال ماہِ شعبان المعظم میں فیضانِ سنت کا باب ”فیضانِ رَمَضان“ پڑھ یا سُن لیں۔)

(72) زندگی میں یک مُشت (یعنی ایک ساتھ) 12 ماہ کے مَدَنی قافلے میں سَفَر اور مختلف کورسز (12 مَدَنی کام کورس، 7 دن کا اصلاحِ اعمال کورس، 7 دن کا فیضانِ نماز کورس) کی سعادت حاصل کر لی؟

مَحْبُوبِ عَطَّار

امیرِ اہلِ سُنَّتِ دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَہُ فرماتے ہیں: جو ذیل میں دیئے گئے

چار کام پابندی سے کرے وہ میرا ”مَحْبُوب“ ہے۔

(1) روزانہ کم از کم 12 بار لکھ کر گفتگو

(2) روزانہ کم از کم 12 بار اشارے سے گفتگو

(3) روزانہ کم از کم 12 بار سامنے والے کے چہرے پر نظریں گاڑے بغیر گفتگو

(4) ہر ماہ کم از کم 63 ”نیک اعمال“ پر عمل۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ صَلَّى اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ

ہر اسلامی بھائی اور بہن کے لیے یکساں مفید



جنت کے طلبگاروں کے لئے مدفنِ گلستا



مکتبۃ المدینہ
(مجموعہ اولیٰ)
SC 1286



مکتبۃ المدینہ
(مجموعہ اولیٰ)
مدرسہ

اللہ

روزانہ FIX TIME پر اپنے دن بھر کے
نیکیوں و اعمال کا جائزہ لیکر مزید
بہتری لانے کا ذہن بناتے ہوئے دعاؤں
کی ایک اجماع
کے خانے پر کیجئے۔



صَلُّوا عَلَيَّ وَتَمِيصُوا
سَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

رسالے میں ہر "نیک عمل" کے سچے 31 دنوں کے خانے دینے گئے ہیں۔
جس "نیک اعمال" پر عمل کی سعادت ملی، بچے خانے میں (سب کا کٹکٹا روٹ) دیکھتے
ہی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے گناہوں سے عفو فرماتے ہیں۔

سودھ پوک میں ہے (آگست کے ماہ میں) گھڑی پر غور فرماتے ہوئے 30 سال
کی سعادت سے بھر پور۔ جامع طور پر 30 سالہ عید 2007ء تک عبادتوں،
خوشیوں، مصائب، اور ہر ماہ حیرت انگیز کے لئے "نیک اعمال" پر عمل کر کے
دعاؤں اس رسالے میں دینے گئے خانے پر کر کے اپنے دل کی مشاہدات کے گہران
کو صاف کر دے گا اس کے عمل میں استقامت و عطا فرما کر اس کو اپنا مقبول بنادے گا۔



پیش روپے ملے سب اکٹریں، اپنی اپنی سزا کریں

+92 31 341 24 24 92 4511-019078

www.maktabahmadia.com / www.dawateislami.net

feedback@maktabahmadia.com / info@www.dawateislami.net

